جلد:۶۲ شمارہ: ۳ (جنوری–مارچ ۲۰۲۵ء)
DOI: https://doi.org/10.52541/fn.v62i3.6181

ٹرانس جینڈر پرسنز (پروٹیکشن آف رائٹس) ایکٹ ۲۰۱۸ء کا اسلامی و عالمی قانون کے تناظر میں تحقیقی جائزہ

عزیز الرحمٰن ۞
شاہ محی الدین ہاشمی ۞

Transgender Persons (Protection of Rights): A Research Study of an Act 2018 in the Context of Islamic and International Law

Aziz ur Rehman۞
Shah Mohyuddin Hashmi۞

ABSTRACT: This article presents a legal critical analysis of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, ۲۰۱۸, enacted in Pakistan, evaluating its provisions in the light of Islamic jurisprudence, the Constitution of Pakistan, and international legal frameworks. The study employs a doctrinal research methodology to investigate how Pakistani statutes align with or diverge from analogous legislation in India, the United States, and the United Kingdom. Notably, the Indian Transgender Persons (Protection of Rights) Act, ۲۰۱۹, mandates a formal process involving a District Magistrate and a medical certificate for gender recognition, which is not stipulated in Pakistani law. Additionally, while Indian, U.S., and UK laws explicitly safeguard the transgender individual's right to cohabit with their family, this fundamental protection is conspicuously absent in the Pakistani Act. The United Kingdom's requirement for medical evidence of gender dysphoria as a prerequisite for a Gender Recognition Certificate is also not mirrored in Pakistani legislation. The analysis reveals that while the ۲۰۱۸ Act makes significant strides in recognizing certain civil rights of transgender individuals, it suffers from critical legal and ethical lacunae, particularly in relation to familial rights and procedural

۞ اسکالر، ایم فل علوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی اسلام آباد۔
۞ ڈین کلیہ عربی و علوم اسلامیہ شعبہ فکر اسلامی علامہ اقبال اوپن یونی ورسٹی اسلام آباد
۞ M.Phil Scolar, Allama Iqbal Open University, Islamabad. (haziz.rehm@gmail.com)
۞ Dean Faculty of Arabic & Islamic Studies, Allama Iqbal Open University, Islamabad.

safeguards. The study concludes that the Act requires substantial revision to harmonize its provisions with the ethical foundations of Islamic law (*sharīʿah*), the constitutional framework of Pakistan, and internationally recognized human rights standards.

Keywords: *law of Pakistan, protection of rights, Act* 2018*, transgender persons, Islamic law, international law.*

Summary of the Article

This article undertakes a critical and comparative analysis of the Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2018 of Pakistan, examining its compatibility with Islamic jurisprudence (*sharīʿah*) and international human rights law. The author addresses theological, legal, social, and medical dimensions relating to the definitions and rights of transgender and intersex individuals, arguing for the necessity of distinguishing between various gender identities within both religious and legal contexts.

The Act was introduced to protect the rights of transgender persons in Pakistan, inspired by international trends and obligations under human rights frameworks such as the UN Charter. It grants individuals the legal right to identify their gender based on self-perception and to change it in official documents without medical certification. The Act includes rights to education, employment, health, inheritance, and protection against discrimination.

The article critiques the terminological conflation in the Act:

- The term *"transgender"* is used as an umbrella term encompassing intersex individuals (*khunthā*), castrated males (eunuchs/*khavājahsarā*), and individuals with self-perceived gender identity.
- These are distinct categories with different legal and religious rulings, and conflating them undermines clarity and justice.

From the standpoint of the *sharīʿah*:

- Self-perceived gender identity, as permitted under Section 3 of the Act, is inconsistent with Islamic principles, which assert that gender is divinely assigned and biologically determined.
- Allowing legal gender change without medical evidence contradicts the Islamic legal requirement of proof and introduces potential for misuse.
- The concept of *castration* (case of eunuchs) is categorically prohibited (*ḥarām*) in Islam and cannot be normalized in legal definitions.
- The Islamic legal system recognizes *khunthā mushkil* (ambiguous/intersex individuals) and prescribes inheritance and social rights based on medical determination, not personal declaration.

Section 7 of the Act allows transgender persons to receive inheritance based on their declared gender identity, not biological sex.

- This contradicts Qur'ānic injunctions such as: "For the male, a portion equal to that of two females" (Qur'ān 4:11).
- This could lead to legal and social injustices, especially in the distribution of estates, family law, and personal status matters.

- This has been declared contrary to Islam by the Council of Islamic Ideology and the Federal Shariat Court.

The article documents the potential misuse of the law:

- Over 28,000 individuals reportedly changed their gender between 2018 and 2021.
- Legal access to women's spaces (e.g., public washrooms, educational institutions, Hajj arrangements) by biological males identifying themselves as women could compromise privacy and security.
- Legal anomalies such as fraudulent inheritance claims and pension abuses are highlighted, supported by actual court cases.

The author evaluates similar legislation in other countries.

- India (2019) requires medical certification for gender change and focuses more on intersex rights.
- The UK (Gender Recognition Act 2004) allows gender transition but under strict medical and procedural conditions.
- The USA lacks uniform federal law; different states vary in the treatment of gender identity and still require documentation for legal change in many cases.

Additionally, the paper critiques the Yogyakarta Principles—an international, non-binding document underpinning many LGBTQ+ rights, which possibly influenced Pakistan's Act 2018. The author argues that these principles are secular and Western-oriented, and therefore, cannot override Islamic moral and legal frameworks. The article recommends the following:

- The Act should be renamed to reflect its focus on intersex persons, not the broader transgender category.
- Gender identity should be determined by biological experts, not personal feelings.
- The distinction between intersex (biological) and transgender (psychological) should be legally codified.
- Any legislation must align with the *sharīʿah*, Pakistan's Constitution, and Islamic cultural norms.
- The Act should be revised under the supervision of scholars, jurists, doctors, and the Council of Islamic Ideology.

The author concludes that while protecting vulnerable minorities is a moral and legal obligation, such protection must not contravene divine principles, biological realities, or constitutional obligations. The Act, 2018, in its current form, introduces jurisprudential, social, and theological inconsistencies. A more refined, Islamically compliant and biologically sound framework is required to ensure justice for intersex persons without compromising societal ethics and religious norms.

تعارف

قانون سازی ان کلیدی طریقوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے حکومتیں معاشرتی رویوں کو اختیارات کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں ۔ قانون سازی، افراد کے حقوق و فرائض کی وضاحت کرتی ہے، اداروں کا قیام یا ان کی تحلیل کا عمل انجام دیتی ہے اور شہریوں کو حکومت کا محاسبہ کرنے کے قابل بناتی ہے۔ پاکستان ایک ذمے دار اسلامی جمہوریہ ہے، اس لیے قانون ساز اداروں پر یہ آئینی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ہر قانون کو اسلامی جمہوری آئینی اصولوں کے مطابق بنائیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ قانون سازی کرنے والے افراد ملک کے لیے اعلیٰ معیار کے قوانین بنانے کے مقصد میں مخلص ہوں۔ اسلام میں اظہارِ رائے کی آزادی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے اور اسی لیے آئین پاکستان کے تحت تمام شہریوں (مرد، عورت، خنثیٰ، بچے، بوڑھے، جوان، نابینا، معذور) کے حقوق محفوظ ہیں اور ہر ایک کو اپنے حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اعلیٰ معیار کی قانون سازی ایک مشکل ذمے داری ہے، کیوں کہ وقتی سیاست، نمائندگان کے متصادم مفادات اور ناقص ہم آہنگی کسی بھی قانون کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اچھے قانون کی خصوصیات میں یہ شامل ہے کہ وہ اسلام، آئین اور ملکی تہذیب و ثقافت کے مطابق اور انصاف و مساوات پر مبنی ہو۔

دنیا بھر میں ٹرانس جینڈر افراد کی قانونی حیثیت مختلف ہے۔ کچھ ممالک نے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مخصوص قوانین وضع کیے ہیں، جب کہ دیگر ممالک میں ان کی صنفی شناخت یا اظہار کو جرم قرار دیا جاتا ہے۔ بہت سے ٹرانس جینڈر افراد کو ملازمت، رہائش، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور دیگر زندگی کے شعبوں میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عالمی سطح پر، بیش تر قانونی نظام دو روایتی صنفوں —مرد اور عورت— کو تسلیم کرتے ہیں، جو کہ شریعت اسلامیہ کا بھی نظریہ ہے، لیکن کچھ ممالک تیسری جنس کو تسلیم کرتے ہیں، جو مرد اور عورت سے مختلف تصور کی جاتی ہے۔ عثمانی سلطنت کے زوال کے بعد، اسلامی معاشرت میں سیاسی، اقتصادی، علمی اور سماجی ضعف پیدا ہوا اور غیر مسلم قوموں نے عالمی اقتدار سنبھال لیا۔ اس کے نتیجے میں، اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، جس نے عالمی سطح پر سیکولر نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ اقوام متحدہ کے تحت مختلف ادارے بنائے گئے اور انسانی حقوق کے چارٹر سمیت متعدد قوانین وضع کیے گئے، جو تمام رکن ممالک پر یکساں طور پر لاگو ہوتے ہیں۔ ان قوانین کی بنیاد انسانی عقل پر رکھی گئی ہے اور ٹرانس جینڈر افراد کے حقوق کی حفاظت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کے ایجنڈے میں "ٹرانس جینڈر افراد" کے حقوق کو شامل کیا ہے اور اس بات پر

زور دیا ہے کہ جینڈر ڈسفوریا اور صنفی شناخت کی مشکلات کے لیے ہم دردی، سمجھ بوجھ اور قبولیت کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے تمام رکن ممالک (مسلم و غیر مسلم) کو پابند کیا کہ وہ ٹرانس جینڈر افراد کے احساسات کو تسلیم کریں، ان کے صنفی اظہار کا احترام کریں اور امتیازی سلوک سے بچیں۔ پاکستان، جو اقوام متحدہ کا رکن ہے، نے ۲۰۱۸ء میں ٹرانس افراد کے لیے "ٹرانس جینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ" (ٹرانسجینڈر ایکٹ) کے عنوان سے قانون سازی کی ۔ اس آرٹیکل میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کا شریعت اسلامیہ اور عالمی قوانین کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا تاکہ پاکستان میں موجودہ قانون سازی کی جانچ کی جاسکے۔

ٹرانس جینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ۲۰۱۸ ء کا خلاصہ

ٹرانس جینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ ۲۰۱۸ء، جسے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق نے منظور کیا تھا، ۲۱/ اگست ۲۰۱۷ء کو سینیٹ میں پیش کیا گیا۔ سینیٹر روبینہ خالد، سینیٹر روبینہ عرفان، سینیٹر ثمینہ سعید اور سینیٹر کلثوم پروین کی طرف سے پیش کردہ اس مسودے کو ۷/مارچ ۲۰۱۸ء کو سینیٹ سے منظوری کے بعد مئی ۲۰۱۸ء میں قومی اسمبلی نے بھی منظور کیا۔ صدر پاکستان نے ۱۸ مئی ۲۰۱۸ء کو اس پر دستخط کیے اور ۲۴/ مئی ۲۰۱۸ء کو یہ گزٹ آف پاکستان میں شائع ہوا۔ یہ قانون سات ابواب اور اکیس دفعات پر مشتمل ہے اور ملک بھر میں نافذ العمل ہے۔ پہلے باب میں اہم اصطلاحات کی تعریف کی گئی ہے، دوسرے باب میں صنفی شناخت کی قانونی حیثیت تسلیم کی گئی ہے، تیسرے باب میں امتیازی سلوک کی ممانعت، چوتھے باب میں ریاستی ذمے داریوں کی وضاحت ، پانچویں باب میں حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی ہے، چھٹے باب میں نفاذ کے طریقہ کار کا تعین کیا گیا اور ساتویں باب میں عمومی دفعات شامل ہیں۔ تحقیق کے مطابق، اس ایکٹ کی ۱۵ دفعات جو بنیادی حقوق جیسے تعلیم، صحت، ملازمت اور امتیازی سلوک کی ممانعت سے متعلق ہیں وہ شریعت اور آئین کے مطابق ہیں۔ تاہم، ۶ دفعات ایسی ہیں جن پر تحفظات ہیں۔ جو بہ ظاہر شریعت اسلامیہ کے موافق معلوم نہیں ہوتیں، جیسے خود ساختہ صنفی شناخت کو تسلیم کرنا پھر اسی کے مطابق حق وراثت کی فراہمی اور عوامی مقامات تک رسائی کا حق وغیرہ۔ آئندہ انھی دفعات کا جائزہ لیا جائے گا۔

۱۔ اس ایکٹ کا سیکشن ۱ (۱) اسے "ٹرانس جینڈر پرسنز (پروٹیکشن آف رائٹس) ایکٹ، ۲۰۱۸ء کے عنوان سے موسوم کرتا ہے۔"

ٹرانسجینڈر ایکٹ کا مقصد خنثیٰ (Intersex) افراد کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ ان کے لئے ٹرانس جینڈر

کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ جو ایک وسیع اصطلاح ہے۔ جس میں بہت سے لوگ شامل ہیں۔ ٹرانس جینڈر دو (ٹرانس +جینڈر)لفظوں کا مجموعہ ہے۔ٹرانس انگریزی زبان میں بہ طورسابقہ یعنی Prefix استعمال ہوتا ہے۔لغت میں جس کے معنی تبدیل کرنا، منتقل کرنا، کے پار، ماورا، کے آتے ہیں جیسے ٹرانس اٹلانٹک (بحر اوقیانوس کے اس پار)، ٹرانس پیسفک (بحر الکاہل کے اس پار) وغیرہ میں ہوتا ہے۔[1] جینڈر(Gender) انگریزی میں "جنس" کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔[2] اس لحاظ سے ٹرانس جینڈر کا مطلب ہوا جنس کے پار، یا ایک جنس سے دوسری جنس میں تبدیل ہونے والا۔

اقوام متحدہ کے مطابق ٹرانس جینڈر کی اصطلاحی تعریف

> Transgender people have a gender identity that is different from the sex that they were assigned at birth. A transgender or trans person may identify as a man, woman, transman, transwoman, as a non-binary person, and with other terms such as hijra, third gender, two-spirit, travesti, fa'afafine, genderqueer, transpinoy, muxe, waria and meti.[3]

ٹرانس جینڈر وہ افراد جو اپنی جنسی شناخت کو پیدائش کے وقت تفویض کردہ جنس کے مخالف قرار دیتے ہیں۔ گویا یہ افراد پیدائشی طور پر، جسمانی اور ہارمونز کے اعتبار سے مکمل عورت یا مرد کی جنس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ مگر بڑے ہو کر کسی نفسیاتی الجھن یا پیچیدگی، معاشرتی دباؤ، ٹرینڈ، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر اپنی جنس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ اس ناخوشی کو Gender Dysphoria کہا جاتا ہے۔ یہ افراد اپنی مرضی سے اپنی جنس / صنف کا تعین کرتے ہیں۔ مرد ہوں تو عورت بن جاتے ہیں، عورت ہو تو مرد، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مرد یا عورت دونوں ہی کا فیصلہ نہیں کرپاتے، یہ خود کو Non Binary کہلواتے ہیں۔ عموماً ایسے افراد کی رائے وقت، حالات اور نظریات کے اعتبار سے بدل بھی سکتی ہے۔ یہ افراد کبھی صرف مخالف صنف کا حلیہ اور افعال اختیار کرتے ہیں اور کبھی سرجری یا ہارمون کے ذریعے اپنے اندرونی وبیرونی اعضا میں تبدیلی بھی کرا لیتے ہیں۔ ٹرانس جینڈر ایک امبریلا

1– *The Oxford English Urdu Dictionary*. Translator: Shanulhaq Haqqi (Karachi: Oxford University Press ,2006) , 1865.

2– *The Oxford English Urdu Dictionary*. Translator: Shanulhaq Haqqi, (Karachi: Oxford University Press, 2006), 654.

3– https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Transgender.pdf(Accessed on:01.12.2022)

ٹرم ہے۔ جس کے نیچے مرد، عورت، ٹرانس مین، ٹرانس ویمن اور نان بائنری کے علاوہ دیگر نام مثلاً تیسری جنس / ہیجڑا / ٹوسپرٹس اور جنڈر کوئیر وغیرہ سبھی آجاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تعریف میں انٹر سیکس کو ٹرانس کے تحت شامل کیا گیا ہے۔ راقم کے نزدیک یہ تصور درست نہیں ہے۔ اس کی وضاحت آئندہ آجائے گی۔

خنثیٰ (Intersex): ایسے افراد جو جنسی ابہام (Sexual Ambiguity) کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔[۴] انگریزی میں انھیں انٹر سیکس کہا جاتا ہے۔

نیشنل سینٹر فار ٹرانس جینڈر مساوات (USA) ٹرانس اور خنثیٰ افراد میں فرق کی یوں وضاحت کرتا ہے کہ لوگ بعض اوقات ٹرانس جینڈر ہونے اور انٹر سیکس ہونے کو الجھاتے ہیں۔ انٹر سیکس لوگوں میں تولیدی اناٹومی یا جین ہوتے ہیں جو نر یا مادہ کی مخصوص تعریفوں پر پورا نہیں اترتے، جو اکثر پیدائش کے وقت دریافت ہوتے ہیں۔ جب کہ ٹرانس جینڈر ہونے کا تعلق کسی بھی شخص کی صنفی شناخت کے بارے میں اس کے داخلی علم سے ہے۔ ایک ٹرانس جینڈر شخص عام طور پر ایک جسم اور جینز کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جو ایک عام مرد یا عورت سے ملتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کی صنفی شناخت مختلف ہے۔[۵] گویا 'انٹر سیکس' اور 'ٹرانس جینڈر' افراد کی دو مختلف قسمیں ہیں۔ ٹرانس کا مسئلہ ذہنی اور انٹر سیکس کا جسمانی ہے۔ 'ٹرانس جینڈر' فرد کو 'انٹر سیکس' نہیں کہا جا سکتا۔ جب ٹرانس جینڈر کی اصطلاح انٹر سیکسڈ افراد کے لیے مناسب نہیں ہے تو راقم کی رائے کے مطابق لفظ ٹرانس جینڈر کو بہ طور "عنوان ایکٹ" چننا درست نہیں، کیوں کہ اس عنوان میں ایسے افراد بھی شامل ہو جاتے ہیں جو صرف باطنی احساس کی وجہ سے خود کو جنس مخالف سمجھتے ہیں (پیدائشی طور پر مکمل مرد یا مکمل عورت ہوتے ہیں)، لہٰذا اس ایکٹ کا نام "خنثیٰ پرسنز (پروٹیکشن آف رائیٹس) ایکٹ" ہونا چاہیے۔ انٹر نیشنل کمیشن آف جیورس ICJ نے بھی اپنی بریفنگ رپورٹ ۲۰۲۰ء میں اس بات کی طرف نشان دہی کی ہے کہ ایکٹ میں انٹر سیکس افراد کو ٹرانس کے زمرے میں شمار کرنا درست نہیں کیوں کہ یہ دونوں الگ الگ قسمیں ہیں۔[۶] اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اپنی سفارشات میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایکٹ کو "ٹرانس جینڈر" کے عنوان سے موسوم کرنا غلط ہے۔[۷]

4- The Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2018, sec.2 (n) (1).

5- Issues | National Center for Transgender Equality (transequality.org) (Accessed on:10.06-2023)

6- ICJ A breifing report March 2020, sec.3 p.8.

۷- **اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات**، اجلاس نمبر ۲۲۹، مورخہ ۲۷ / ستمبر ۲۰۲۲ء، سفارش نمبر ۱۔

۲۔ ایکٹ میں سیکشن ۲ این کے تحت ٹرانس جینڈر کی تعریف کرتے ہوئے تین اقسام بیان کی گئیں۔ پہلی قسم ۲ این(I) میں انٹر سیکس کی تعریف "ایسا شخص جس کی جنس میں ابہام پایا جائے۔" دوسری قسم ۲ این(II) میں "EUNUCH جو پیدائشی مرد ہو، لیکن بعد میں اس کا جنسی عضو کاٹ کر اسے نامرد بنادیا گیا ہو۔" کو ٹرانس کے تحت شمار کیا گیا۔ تیسری قسم ۲ این(III) میں "Any Person" کوئی بھی شخص جس کی صنفی شناخت، پیدائش کے وقت تفویض کردہ جنس سے متعلق سماجی اقدار اور ثقافتی توقعات سے مختلف ہو۔ **پہلی قسم** انٹر سیکس کی تعریف بالکل درست کی گئی اور حقیقت میں ایکٹ میں مذکورہ حقوق کے مستحق بھی صرف اور صرف یہی لوگ ہیں۔ **دوسری قسم** ۲ این(II) میں Eunuch کو ٹرانس میں شامل کیا گیا ہے۔ Eunuch کے لیے عربی میں "خصی" اردو میں "خواجہ سرا" اور "آختہ" کی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن اسے یہاں خواجہ سرا نہیں کہا گیا، بلکہ خواجہ سرا کو تیسری قسم میں الگ طور پر بیان کیا گیا۔ مختلف لغات اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں یوں:

Black's Law Dictionary کے مطابق Eunuch:

A male of the human species who has been castrated. (8)

"نوع انسانی کا ایک "نر" جسے کیسٹریٹ کیا گیا ہے۔"

آکسفرڈ انگلش اردو ڈکشنری میں Eunuch کا ترجمہ 'خواجہ سرا' کے طور پر کیا گیا۔(۹) آختہ شدہ مرد، خصوصاً محل میں مامور خواجہ سرا۔

اردو لغت، **نور اللغات** کے مطابق نامرد غلام اور گھر میں زنانہ کام کرنے والے کو خواجہ سرا سے تعبیر کیا گیا ہے۔(۱۰)

Castrated مرد کے لیے خواجہ سرا کے علاوہ اردو میں اور بھی بہت سی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جیسے نامرد، زنخا، زنانہ، وہ شخص جو بہادر نہ ہو، ہیجڑا، مخنث۔(۱۱) مذکورہ تمام الفاظ خواجہ سرا کے لئے مستعمل ہیں۔ اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خواجہ سرا انگریزی لفظ Eunuch یا Castrated Male کا اردو ترجمہ ہے۔

8– Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary*, Revised 4th Ed., 1968, St. Paul, Minn. West Publishing Co.P.654.

9– Shan ul Haqq Haqqi, *Oxford English-Urdu Dictionary*, ISBN-13: 978-0195793406

۱۰ – نور الحسن، **نور اللغات (اردو)** (ہند: لکھنؤ، ۱۹۱۷ء)، ۲: ۳۰۵۔

۱۱ – سید احمد دہلوی، **فرہنگ آصفیہ** (لاہور: مطبع رفاہ عام پریس، ۱۹۰۸ء)، ۲: ۲۰۷۔

آختہ مرد کی عرف میں چار ممکنہ صورتیں بنائی جاسکتی ہیں۔ کسی شخص کا بیماری کی وجہ سے اعضاے مخصوصہ کو کٹوالینا مثلاً کینسر وغیرہ ، ایکسیڈنٹ میں مردانہ اعضا کا کٹ جانا، گروؤں کا جبراً کسی شخص کو نربان بنادینا، کسی شخص کا اپنی رضا مندی سے خصیے یا اعضاے مخصوصہ کو کٹوالینا۔ آختہ ہونے کی کوئی بھی صورت ہو "Eunuch" ہو تا مرد ہی ہے نہ کہ خنثیٰ۔ پہلی دو صورتیں اضطراری ہیں جب کہ تیسری اور چوتھی صورت اختیاری اور فعل "حرام" ہیں۔

شریعت اسلامیہ میں کیسٹریشن کا حکم

جان بوجھ کر خصی ہونا مثلہ کرانے کے مساوی ہے، جو تغییر خلق اللہ میں شامل ہے، جس کی قرآن کریم میں سخت مذمت کی گئی ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ﴾ اور میں (شیطان) ان کو ضرور حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل دیں۔[۱۲] جب کہ بیش تر احادیث نبویہ میں انسانوں کو خصی ہونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اجتماعی اور انفرادی طور پر عمل اختصا کی اجازت چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مختلف جوابات مرحمت فرما کر اس عمل سے منع فرمادیا۔ اجازت سے مطلوب گھریلو ذمے داریوں سے سبک دوش ہو کر یک سوئی سے رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل رہنا تھا۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے خصی ہونے کی صورت روزہ رکھنے[۱۳] اور رات کو قیام کرنے میں ہے اور کئی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح طور پر "نہانا" کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔[۱۴] بلکہ "حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام کو خصی کرے ہم اسے خصی کر دیں گے یعنی قصاصاً۔[۱۵] علامہ ابن حجرؒ فرماتے ہیں کہ انسانوں کے معاملے میں یہ حرام ہے اس بارے کوئی اختلاف نہیں۔[۱۶] معلوم ہوا شریعتِ اسلامیہ میں اس کی گنجائش نہیں۔ اب ایسا شخص

۱۲- القرآن، ۰۴: ۱۱۹۔

۱۳- ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیشاپوری امام مسلم، **صحیح مسلم**، کِتَاب النِّکَاحِ، باب اسْتِحْبَابِ النِّکَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَیْهِ وَوَجَدَ مُؤْنَةً وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ (ملتان: مکتبة دارالقرآن والحدیث)، ۱: ۴۴۹، رقم: ۳۳۹۸– ۳۴۰۰۔

۱۴- نفس مصدر، کِتَاب النِّکَاحِ، باب نِکَاحِ الْمُتْعَةِ، ۱: ۴۵۰، رقم: ۳۴۱۰۔

۱۵- ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب بن علی امام نسائی، **سنن النسائي**، کتاب القسامة والقود والدیات، بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّن (کراچی: قدیمی کتب خانہ، ط۔ن)، ۲: ۲۴۲، رقم: ۴۷۵۸۔

16 – Al -Mawsoo'ah al-Fiqhiyyah, 19: 120, 121.

جس کی کسی بھی وجہ سے کیسٹریشن ہوئی، اس کو ٹرانس میں شامل کرنا کیسے ممکن ہے۔ راقم کی راے کے مطابق ٹرانسجینڈر ایکٹ دفعہ ۲این میں Eunuchs کی تعریف ممکنہ طور پر کیسٹریشن کو قانونا جائز قرار دے رہی ہے ۔کیسٹریشن شریعت اسلامیہ میں تو جرم اور گناہ ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن ۳۳۳ تا ۳۳۶[۱۷] کی وجہ سے قابل سزا جرم بھی ہے۔ اتلاف عضو / اتلاف صلاحیت عضو کی صورت میں اگر قصاص ممکن ہو تو ٹھیک ورنہ دس سال تک قید بھی ہو سکتی ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ میں لفظ خواجہ سرا کو تیسری قسم میں الگ ذکر کرنا درست نہیں، بلکہ اس کو تعریف نمبر ۲ میں Eunuch کے اردو ترجمہ کے طور پر ذکر کیا جانا چاہیے تھا۔ خواجہ سرا یا Eunuch بھی ایسے افراد ہیں، جن کی جنسی شناخت ان کے جسم سے متعلق ہوتی ہے جب کہ ٹرانس جینڈر کی جنسی شناخت ان کے باطنی احساس سے متعلق ہوتی ہے۔اس لحاظ سے Eunuch یا خواجہ سرا،ٹرانس کے افراد شمار نہیں کیے جا سکتے۔ ان افراد کو جنس مرد سے نکال کر ٹرانس میں شامل کرنا ازروے شرع ، قانون اور عقل درست نہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس شق کو خلاف شرع قرار دیا ہے۔[۱۸] **تیسری قسم کی تعریف میں** (Or Any Person) "کوئی بھی شخص" کے الفاظ سب سے زیادہ خطرناک ہیں ۔ گویا ٹرانس جینڈر شخص کی کیٹگری صرف چند مخصوص افراد کو شامل نہیں، بلکہ یہ "سہولت" اس قانون نے ہر پاکستانی فرد کے لیے پیدا کی ہے کہ کسی وقت کوئی بھی شخص اپنی صنف سے ماوراہو کر کسی اور صنف میں جاسکتا ہے۔ ازروے شرع "کسی بھی شخص" کو ٹرانس جینڈر کے تحت شمار کرنا بعید از قیاس ہے۔ چند سالوں تک اس کے بھیانک نتائج رونما ہونے کا خدشہ ہے۔ Any Person کی اصطلاح کو ٹرانس کے تحت شمار کرنے کو اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی غلط کہا ہے۔[۱۹]

۳۔ سیکشن ۳ میں "خود ساختہ صنفی شناخت" (Self Perceived Gender Identity) اپنانے اور اسے سرکاری ریکارڈ میں بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ رجسٹر کرانے کا حق دیا گیا ہے۔ یہ دفعہ بنیادی طور پر ٹرانس جینڈر شخص کو چار حقوق عطا کرتی ہے۔ "ٹرانس کی خود ساختہ صنفی شناخت کو تسلیم کیا جائے۔ اسی کے مطابق ان کی رجسٹریشن کی جائے۔ پاکستانی شہریت کے حامل ٹرانس کو ۱۸ سال کی عمر میں شناختی کارڈ جاری کیا جائے۔ سابقہ شناختی کارڈ تبدیل بھی کرایا جا سکتا ہے۔" اس شق کے تحت اگر کوئی جنسی طور پر مرد نادرا دفتر جا کر کہے کہ اسے اس کی

17– Sohail Anwar Qureshi Advocate (comp). *Pakistan Penal Code*, 1860. (Lahore: Mansoor Book House, 2022), Chap no xvi.Sec 333- 336., 79.

۱۸۔ **اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات**، اجلاس نمبر ۲۲۹، مورخہ ۲۷/ ستمبر ۲۰۲۲ء، **سفارش نمبر ۵۔**

۱۹۔ **اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات**، اجلاس نمبر ۲۲۹، مورخہ ۲۷/ ستمبر ۲۰۲۲ء، **سفارش نمبر ۳۔**

خود ساختہ صنفی شناخت کے مطابق عورت رجسٹر کیا جائے، تو نادرا اس بات کا پابند ہے، اس کے پاس نہ کی گنجائش نہیں، نہ ہی نادرا اس سے اس کے میڈیکل سرٹیفکیٹ کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ سرکاری کاغذات اور دستاویزات میں عورت قرار دیے جانے کے بعد یقیناً اسے عورتوں کے تمام حقوق بھی میسر ہوں گے۔ اسی طرح اس کے برعکس عورت بہ طور مرد رجسٹر ہو کر مردوں کے حقوق حاصل کر سکتی ہے۔ انٹرنیشنل کمیشن آف جیورس "ICJ" کی رپورٹ کے مطابق اس ایکٹ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ٹرانس جینڈر افراد سے کسی قسم کے طبی سرٹیفکیٹ کے مطالبے کے بغیر ان کی خود ساختہ صنفی شناخت کے چناؤ کو بہ طور قانونی حق کے تسلیم کرتا ہے۔ بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے صنفی شناخت کو قانونی حق کے طور پر تسلیم کرنا اس ایکٹ کو نہ صرف ایشیا میں بلکہ عالمی سطح پر صنف کی پہچان سے متعلق قوانین کے مقابلے میں زیادہ ترقی پسند قانون کے طور پر ممتاز کرتا ہے۔ ایکٹ کی دفعہ ۳ (iii) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صنف کی قانونی پہچان سے مستفید ہونے کا حق دار بننے کے لیے دو شرائط رکھی گئی ہیں: ان میں سے ایک پاکستانی شہریت کا ہونا لازمی ہے جب کہ دوسری ۱۸ سال عمر کا ہونا۔ پاکستانی شہریت والی شرط سے تارکین وطن، غیر ملکی مہاجرین پناہ گزین، بے وطن افراد موجودہ رہائش والے ممالک میں اصل شناخت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ICJ اپنی رپورٹ میں مزید یہ کہتا ہے کہ صنفی شناخت کا قانونی حق صرف ۱۸ سال کی عمر کے لوگوں کو ہے اس سے کم عمر افراد پیدائشی سرٹیفکیٹ پر خود ساختہ صنفی شناخت درج نہیں کروا سکتے۔ اگرچہ یہ شرط کئی اور ممالک میں بھی موجود ہے لیکن پاکستانی ایکٹ قابل ستائش طور پر بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ کی شرط کے صنفی شناخت کو قانوناً تسلیم کرتا ہے، لہٰذا اس امر کو ۱۸ سال یا اس سے زائد عمر تک کے لوگوں تک محدود کرنے کی وجوہات واضح نہیں۔[۲۰] انٹرنیشنل کمیشن آف جیورس کے اس تجزیہ میں ایک طرف تو میڈیکل سرٹیفکیٹ کی شرط نہ ہونے پر تعریف کی گئی ہے جب کہ دوسری طرف "ھل من مزید" کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ ۱۸ سال سے کم عمر کا استثنا نہیں ہونا چاہیے۔

میڈیکل سرٹیفکیٹ کی اہمیت

شریعت میں خنثیٰ سے متعلق پہلا قاعدہ ان کی وراثت کے بارے میں پوچھا گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا تعین ان کے پیشاب کے نظام (جہاں سے وہ پیشاب کرتے ہیں) کے مطابق ہو گا۔[۲۱] یہ صدیوں پرانا

20– ICJ A breifing report march 2020,sec.5(a), 14-15.

۲۱ – ابو بکر احمد بن الحسین بیہقی، سنن الکبریٰ للبیھقي، باب میراث الخنثیٰ، ٦ : ۴۲۸، رقم: ۱۲۵۱۸۔

قاعدہ ہے، لیکن وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک طرح سے طبی معائنے کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ بات فطرت اور شریعت دونوں کے خلاف ہے کہ بغیر میڈیکل سرٹیفکیٹ کے کسی شخص کو صرف اس کی خود ساختہ شناخت کے مطابق اپنی جنس رجسٹر کرانے کی اجازت دی جائے۔ قانون کا ایک اصول ہے کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک قبول نہیں کی جاسکتی جب تک اس کے بارے میں واضح اور ٹھوس ثبوت نہ ہوں۔اس لیے ثبوت کے قانون میں دو قسم کے شواہد کو بنیادی حیثیت دی گئی ہے۔ایک زبانی ثبوت اور دوسرا دستاویزی ثبوت۔[۲۲] دستاویزی ثبوت سب سے اہم ہے۔ کسی بھی حقیقت کو بغیر کسی گواہی کے ثابت کرنا ناقابل قبول سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں معذور افراد کو سرکاری اداروں میں بھرتی کے لیے ظاہری نظر آنے والی معذوری کے باوجود میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی قرار دیا گیا کہ ان افراد کے حقوق کا تحفظ کیا جاسکے۔ تاکہ کوئی بھی شخص معذور ہونے کا بہانہ کرکے کسی دوسرے شہری یا ریاست کو دھوکہ نہ دے سکے۔ سرٹیفکیٹس کا مقصد صرف اور صرف ٹرانس کے حقوق کا تحفظ ہے نہ کہ انھیں دوسرے شہریوں سے کم تر قرار دینا۔ ایسے ہی نادرا میں اگر کوئی اپنا سٹیٹس شادی شدہ میں تبدیل کروانا چاہے تو نادرا اس سے اس تبدیلی کا ثبوت (نکاح نامہ) مانگتا ہے۔ حیرت ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر ثبوت کے جنس کیسے تبدیل کرواسکتا ہے۔ بہر حال اس پر مقننہ کو نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

Self Perceived Gender Identity اختیار کرنے کا حق، شریعت اور مقاصد شریعہ کے خلاف اور تغییر خلق اللہ کے زمرے میں آتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی و حکمت کے تحت جسے چاہے، جیسے چاہے (مذکر و مونث) پیدا کرے۔

﴿يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ﴾[۲۳] (جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے۔)

مذکر و مونث کی تخلیق، اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت غیر اختیاریہ ہے اس میں انسان کو اپنی مرضی سے تبدیلی کی اجازت نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ؕ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾[۲۴]

22– Muhammad Abdul Basit Adv. High Court (Comp), *The Qanun-e-Shahadat*, 1984. (Rawalpindi: Published by Federal Law House, 2022.) Part.1. Chap no IV, V.Article. 70,71,72, 40-42.

۲۳– القرآن، ۴۲: ۴۹۔

۲۴– القرآن، ۲۸: ۶۸۔

(اور تمھارا پرورد گار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور (جو چاہتا ہے) پسند کرتا ہے۔ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔) ایک اور مقام پر فرمایا: ﴿فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۭ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ﴾[۲۵] (فطرت الٰہیہ پر قائم رہو، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اس کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں۔)

ایسے ہی احادیث نبویہ ﷺ میں مردوں اور عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پیدائشی جنس کے علاوہ مخالف جنس کے طور پر کام کریں یا برتاؤ کریں، کیوں کہ جنس مخالف کی مشابہت کرنا لعنت کا سبب ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَنًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلاَنًا.[۲۶]

(نبی ﷺ نے مخنث مردوں پر اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں کی چال ڈھال اختیار کرتی ہیں نیز آپ نے فرمایا: "انھیں اپنے گھروں سے نکال دو" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فلاں کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلاں مخنث (ہیجڑے) کو نکالا تھا۔)

جدید ثقافتوں اور معاشروں میں جو ایک تصور یہ ہے کہ عورت مرد کی طرح مردوں والے کام کر سکتی ہے اور مرد عورت والے کام اور برتاؤ کر سکتا ہے، شریعت اسلامیہ ایسی عورتوں کو مترجلات من النساء اور مردوں کو المخنثین من الرجال سے تعبیر کرتی ہے۔[۲۷] احادیث نبویہ ﷺ میں ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو خوب صورتی کے لیے جسم میں سُرمہ بھرواتی ہیں یا دانتوں میں خلا کرواتی ہیں ان کے لیے الفاظ بھی المغیرات لخلق الله کے استعمال کیے گئے ہیں۔[۲۸] شریعت جب اس ظاہری تبدیلی کو پسند نہیں کر رہی جس سے

۲۵۔ القرآن، ۳۰: ۳۰۔

۲۶۔ محمد بن عیسیٰ الترمذی، جامع الترمذي، أَبْوَابُ الْآدَابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ (لاہور: اردو بازار مکتبہ رحمانیہ، ط۔ن)، ۲: ۵۶۷۔

۲۷۔ البخاری، الجامع الصحیح كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابٌ: الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ، ۲: ۸۷۴، رقم: ۵۸۸۶۔

۲۸۔ نفس مصدر، كِتَابُ اللِّبَاسِ، بَابُ الْمُسْتَوْشِمَةِ (لاہور: اردو بازار مکتبہ الحسن، ت، ن)، ۲: ۸۸۰، رقم: ۵۹۴۸۔

احکامات اور حقوق و فرائض میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو جس تبدیلی سے احکام شرعیہ بشمول حقوق و فرائض ، ستر و حجاب اور حلت و حرمت سب تبدیل ہو جائیں اُسے کیسے قبول کر سکتی ہے۔ Self Perceived Gender Identity اس وقت قابل قبول ہو گی جب وہ بائیولوجیکل متخصصین کی رائے ، شریعت اسلامیہ ، آئین پاکستان اور ملکی تہذیب و ثقافت سے مطابقت رکھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی خود ساختہ صنفی شناخت کی رجسٹریشن کروانے کے حق کو قرآن و سنت کے احکامات سے متصادم قرار دیا ہے۔[۲۹]

تبدیلی جنس کا حکم

خنثیٰ غیر مشکل کی صورت میں ظاہری جنسی اعضا اور جسمانی علامات کو باطنی جنسی اعضا کے مطابق درست کرنے کی گنجائش ہے۔ درستی کا یہ عمل تبدیلی جنس نہیں بلکہ تصحیح جنس کہلائے گا۔ اعضاے تولید میں کسی بھی قسم کی اصلاحی سرجری شریعت کے بنیادی اصولوں یعنی حفظ النفس اور حفظ النسل کے مطابق جائز ہے۔ خنثیٰ مشکل اگر مشکل ہی رہے کسی صورت اس میں ترجیح دینا ممکن نہ ہو تو خنثیٰ مشکل کے لیے ایک جنس اختیار کرنے کے لیے آپریشن کرانا بہ ظاہر تغییر خلق اللہ ہونے کی وجہ سے ناجائز معلوم ہوتا ہے۔ امام ابن عطیہ نے سورہ نساء آیت ۱۱۹ کے تحت اقوال اور روایات ذکر کرنے کے بعد بڑی اہم بات فرمائی جو تغییر خلق اللہ کے مفہوم کے لیے ایک ضابطہ کلی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:" وملاک تفسیر هذه الآية: أن كل تغيير ضار فهو في الآية وكل تغيير نافع، فهو مباح."[۳۰] (ہر وہ تغییر جو ضرر رساں ہو کوئی نفع نہ دیتی ہو وہ تغییر خلق اللہ میں داخل ہے اور ناجائز ہے۔ اور ہر وہ تغییر جو نافع ہو وہ اس میں داخل نہیں۔) اس تفصیل سے خنثیٰ مشکل کے لیے بھی کوئی ایک جنس اختیار کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے؛ کیوں کہ اس کے لیے بھی کوئی ایک جنس اختیار کرنا نافع ہے۔

جنس کے تعین کا اختیار کس کو ہے؟ انسان اپنی جنس کو متعین کرنے کا خود اختیار رکھتا ہے / اس کے والدین ، ڈاکٹرز یا شریعت؟ اس سے متعلق چند مختلف نقطۂ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ

۲۹۔ **اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات**، اجلاس نمبر ۲۲۹، مورخہ ۲۷/ ستمبر ۲۰۲۲ء، سفارش نمبر ۶۔

۳۰۔ ابو محمد عبد الحق بن ابو بکر امام ابن عطیہ اندلسی، تفسیر ابن عطية: **المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز** (مکمل) (قطر: إدراة الشئون الإسلامية، ۲۰۰۷ء)، ۱۳۵۶۔

مذہبی مسئلہ ہے ۔ دلائل میں وہ سب قرآنی آیات پیش کرتے ہیں جن کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو جوڑاجوڑاپیدا فرمایا۔ بعض حضرات اسے بائیولوجیکل مسئلہ جب کہ دوسرے بعض اس کو نفسیاتی مسئلے سے جوڑتے ہیں۔ بدیہی بات ہے کہ ہر شعبے کے ماہرین و متخصصین (لکل فن رجال) ہوتے ہیں، جن کی رائے اپنے شعبے سے متعلق تمام امور میں حتمی شمار ہوتی ہے۔ جنس سے متعلق مسئلہ بھی بائیولوجیکل ہے، اس لیے اس حوالے سے انھی لوگوں کی رائے معتبر ہوگی جو حیاتیاتی امور کے ماہر ہیں۔ اس سے متعلق کسی بھی دوسرے شخص کی رائے غلط اور مبنی بر تعصب ہونے کے ساتھ دوسرے کی حق تلفی پر مبنی بھی ہو سکتی ہے، جس کے اثرات خاندانی و معاشرتی زندگی کے انتشار پر منتج ہو سکتے ہیں ، اس لیے صائب رائے یہی ہے کہ اس کا اختیار بائیولوجیکل متخصصین وماہرین کے سپرد کیا جائے۔ خداوند باری تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا فرمایااور قران کریم میں نظام فطرت کا مین سٹریم ازواج ہی کو قرار دیا گیا، لیکن ہر ایک قانون اور نظام میں استثناءات ہوتے ہیں جن کی حکمت حقیقی معنوں میں اس کے خالق کے پاس ہوتی ہے۔ ان استثناءات کا تناسب بہت کم ہوتا ہے۔ البتہ نفسیاتی مسئلے کی وجہ سے کسی دوسرے جنس کی طرف میلان رکھنے والوں کا حل قانون کے پاس نہیں ہے، بلکہ طب میں ہے؛ کیوں کہ بعض اوقات نفسیاتی مسئلہ طبی امور کی بنا پر ہوتا ہے تو طبی علاج کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ذہنی یا نفسیاتی مسئلہ ہے تو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ شریعت نے حکم لگانے کے لحاظ سے دو ہی تقسیمیں کی ہیں یعنی مرد اور عورت اور یہ حکم اس خاص فرد کی غالب جنسی علامات کے ذریعے لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں گویا دو چیزیں ہیں۔ ایک تعیین جنس کا اختیار ، دوسرا کسی بھی جنس سے متعلقہ امور میں احکامات لگانے کا اختیار۔ تعیین جنس کے اختیار کا مسئلہ بائیولوجیکل ماہرین سے متعلق ہے جب کہ کسی بھی جنس پر اس جنس سے متعلقہ احکامات لگانے کا اختیار شریعت کے پاس ہے۔

Self Perceived Gender Identity رجسٹریشن کے ممکنہ اثرات

اگر Self Perceived Gender Identity کو تسلیم کر لیا جائے اور رجسٹریشن ہو جائے تو پہلا اثر ایکٹ کے غلط استعمال ہونے کا خدشہ ہے اور وہ ہوا بھی ہے۔ تین سالوں میں ،جون ۲۰۱۸ء سے جولائی ۲۰۲۱ء تک ۲۸۷۲۳ لوگوں نے جنس تبدیل کرائی۔ (۳۱)

31- Report: 315, The Session of Senate Secretariat "Questions for Oral answer and their replies on 10 nov, 2021.Published in urdu news , Islamabad on 11 nov, 2021.

- **احکام شرع:** حقوق و فرائض، ستر و حجاب، لباس، حلت و حرمت، طہارت (حیض و نفاس)، عبادات (نماز، جہاد، اعتکاف، روزہ، حج، احرام، طواف میں رمل، حلق، قصر)، امامت و قضا اور حدود و قصاص کے احکام متأثر ہونے کا خدشہ ہے۔
- **شخصی/انفرادی معاملات:** نان و نفقہ، کفالت و تربیت، نکاح، طلاق و خلع، تجہیز و تکفین اور رضاعت و مصاہرت میں اثرات مرتب ہوں گے۔
- **قانونی معاملات:** جیسے ریپ، قتل اور دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث مجرم تبدیلی جنس سے راہ فرار اختیار کر سکیں گے۔
- **سرکاری معاملات:** سول سرونٹ رولز متأثر ہوں گے۔ مثال کے طور پر، سرونٹ پنشن رولز "غیر شادی شدہ بیٹیاں اپنے والدین کی پنشن سے فوائد حاصل کرنے کی حق دار ہیں" کے تحت، مرد 'ٹرانس جینڈر خاتون' کا CNIC حاصل کر کے قانونی طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ متوفی ملازم کا بیٹا قانونی طور پر "بیٹی" بن سکتا ہے اور پنشن کا حق دار قرار پا سکتا ہے۔ اگر ٹرانس جینڈر ایکٹ کے قانونی تقاضوں کے مطابق اس شخص/خاتون کو پنشن جاری کی جاتی ہے، تو یہ ایک قانونی عمل ہو گا، مگر اس کے لیے پنشن قوانین و دیگر رولز کو نظر انداز کرنا غیر آئینی اقدام ہو گا۔ کے پی کے میں ایک کیس سامنے آیا جہاں گوہر رحمان محکمہ صحت میں خدمات انجام دے کر ریٹائرمنٹ کے بعد پنشن وصول کرتا رہا۔ بعد ازاں، اس کی بیٹی "رخسار" نے خود کو ٹرانس جینڈر اور غیر شادی شدہ بتاتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ اس کے مرحوم والد کی پنشن و دیگر مراعات اسے فراہم کی جائیں۔ عدالت نے ٹرانس جینڈر ایکٹ کی دفعات ۴ اور ۱۶ پر انحصار کرتے ہوئے درخواست گزار کے حق میں فیصلہ سنایا، جس میں کہا گیا کہ درخواست گزار کو CNIC جاری کیا گیا ہے، جو اس کے عورت (ٹرانس جینڈر) ہونے کے دعوے کی قانونی حمایت کرتا ہے، لہٰذا وہ صنفی اظہار میں کسی بھی تبدیلی سے مشروط طور پر اپنے والد کی فیملی پنشن کی حق دار ہے۔

۴۔ دفعہ ۷ ٹرانس جینڈر افراد کے لیے وراثت کے اصولوں کو بیان کرتا ہے۔ ان میں پہلا اصول یہ ہے کہ ان افراد کو وراثت دینے کے معاملے میں قانونِ وراثت کے مطابق ان کا "جائز حق" دینے میں کوئی امتیاز نہ برتا جائے۔ **"قانونِ وراثت"** سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں تقسیم وراثت اور مختلف ورثا کے حصوں سے متعلق کوئی

تفصیلی قانون موجود نہیں۔ صرف مسلم فیملی لاز آرڈی نینس، ۱۹۶۱ء کی ایک دفعہ ۴ ہے۔[۳۲] جس میں ایسے یتیم پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کے لیے حق مقرر کیا گیا جن کی ماں یا باپ کی وفات ان بچوں کے نانا/نانی یا دادا/دادی کی زندگی میں ہی ہو گئی ہو، تو پھر پاکستان میں وراثت کس قانون کی رو سے تقسیم ہوتی ہے اور ورثا کے حصوں کو کیسے متعین کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب مسلم پرسنل لا (شریعت) اپلی کیشن ایکٹ، ۱۹۶۲ء میں ملتا ہے کہ ان امور میں "فیصلے کا قانون" شریعت ہے، لیکن "قانون کے تابع۔"[۳۳] چناں چہ جہاں قانون میں مسلم فیملی لاز آرڈی نینس کی دفعہ ۴ کی طرح صراحت کی گئی ہو گی،[۳۴] تو وہاں اس قانون کے مطابق حصہ دیا جائے گا، لیکن جہاں قانون میں حصے مقرر نہ ہوں، تو وہاں حصوں کے لیے شریعت کی طرف دیکھا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا۔
دفعہ ۷(۲) میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ وراثت کے حصوں کا تعین شناختی کارڈ پر مذکور خود ساختہ صنفی شناخت کے مطابق ہو گا۔ اس شق سے ٹرانس جینڈر افراد کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے ذاتی احساس پر مبنی صنفی شناخت کی بدولت وراثت کے احکام بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ دفعہ ۷(۳) وراثت سے متعلق اصولوں کو تفصیلاً بیان کرتی ہے۔ اگر ٹرانس مین ہے تو مرد اور اگر ٹرانس ویمن ہے تو عورت کے حصہ وارثت کی مستحق ہو گی۔ لیکن جس شخص کی صنف کا تعین مشکل ہو تو پھر دو صورتیں ہیں۔ وہ شخص ۱۸ سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہو گا یا کم۔ اگر ۱۸ سال یا اس سے زائد عمر والا ہو، تو اسے اس کی صنفی شناخت کے مطابق حصہ دے دیا جائے ورنہ ابہام کی صورت میں اسے مرد وعورت کے حصوں کا اوسط دیا جائے۔ جب کہ ۱۸ سال سے کم نابالغ بچے کو حق وراثت دینے کے لیے طبی ڈاکٹر سے اس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لیا جائے اور اسی حساب سے اسے وراثت دی جائے۔ ٹرانس جینڈر ایکٹ کی اس شق میں ایک تضاد معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸ سال سے کم عمر والے فرد کے لیے میڈکل ٹیسٹ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ جب کہ ۱۸ سال سے زائد والے افراد کے لیے اس کی ضرورت نہیں۔ وراثت کے حصص کی تقسیم اور اس کے متعلق اسلامی

---

32 – Muhammad Abdul Basit Advocate (comp.). Muslim Family Laws: The Muslim Family Laws Ordinance, 1961. (As amended for Punjab). (Rawalpindi: Published by Federal Law House, 2022), Sec.4. 4.

33 – Muhammad Abdul Basit Advocate (comp.), Muslim Family Laws: *The West Pakistan Muslim Personal Law* (Shariat) Application Act, 1962 (Rawalpindi: Published by Federal Law House, 2022), Sec.2. 112.

34– Muhammad Abdul Basit Advocate (comp.), Muslim Family Laws: The Muslim Family Laws Ordinance, 1961.(As amended for Punjab). Rawalpindi: Published by Federal Law House, 2022.Sec.4.p.4.

ہدایات میت کے قانونی ورثا کی جنس کی بنیاد پر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾[۳۵] (اللہ تمھاری اولاد کے حق میں تمھیں حکم دیتا ہے، ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔) معلوم ہوا قرآن میں مرد و عورت کے وراثتی حصوں کی تعیین بائیولوجیکل جنس کے مطابق کی گئی ہے۔ مرد کو عورت کا حصہ نہیں مل سکتا اور عورت کو مرد کا حصہ نہیں مل سکتا۔ لہٰذا، حق وراثت جو ایکٹ کی دفعہ ۷ میں مذکور ہے، اسلام کے احکام کے خلاف ہے۔ جب ایک ٹرانس مین قانوناً ایک مرد کا حصہ لے گا، حقیقتاً وہ ایک عورت ہے تو اسے مرد والا حصہ دینا کیسے شریعت کے مطابق ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اس کے برعکس۔ اس شق کو اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی شریعت و آئین سے متصادم قرار دیا ہے۔ [۳۶]

۵۔ دفعہ ۱۴ کے تحت ٹرانس افراد کو عوامی مقامات تک رسائی کا حق دیا گیا ہے۔ کسی بھی ٹرانس جینڈر فرد کو اس کی جنسی شناخت کی بنیاد پر تفریحی یا مذہبی مقامات تک رسائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے نتیجے میں خواتین کی پرائیویسی متأثر ہو سکتی ہے اور نئے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔، ایک ٹرانس ویمن جو حقیقت میں مرد ہے، حج کے دوران خواتین کے ساتھ رہائش اختیار کر سکتی ہے، حالاں کہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ بچیوں کے کالجوں میں داخلہ، قومی و صوبائی اسمبلی اور سینیٹ کی رکنیت، بسوں میں خواتین کے لیے مخصوص سیٹوں پر بیٹھنے کی اجازت، سرکاری اداروں میں خواتین کے لیے مخصوص نشستوں پر بھرتی، عوامی مقامات پر خواتین کے لیے بنائے گئے واش رومز، جمز، سوئمنگ پولز اور کھیلوں میں شرکت متأثر ہو سکتی ہے۔ ایسے واقعات سامنے آئے بھی ہیں۔ پولیس ٹریننگ کالج لاہور کی انتظامیہ نے ۷ اکتوبر ۲۰۲۲ء کو اپنے ہیڈ آفس خط لکھا کہ رحیم یار خان سے صبیحہ بی بی بیلٹ نمبر ۷۹۹، جو ایک خاتون ٹرینی کے طور پر ٹریننگ لینے آئی ہیں، خود کو ٹرانس ویمن کے طور پر شناخت کراتی ہیں۔ کالج کو پہلے اس بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا تھا۔ باقی ٹریننگ لینے والی خواتین اس ٹرانس ویمن کے ساتھ ایک ہی ہاسٹل میں رہ کر ٹریننگ لینے میں غیر آرام دہ محسوس کر رہی ہیں۔ خط میں درخواست کی گئی ہے کہ اس ٹرانس ویمن کی ٹریننگ کے بارے میں رہ نمائی فراہم کی جائے۔ لہٰذا اس شق پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔

۶۔ دفعہ ۱۷ میں ٹرانس جینڈر سے گداگری کروانے کو قابل سزا جُرم قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ۶ ماہ کی قید یا ۵۰ ہزار روپے جرمانے (یا دونوں) کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ جو کسی ٹرانس جینڈر شخص کو بھیک مانگنے پر

۳۵۔ القرآن، ۰۴: ۱۱۔

۳۶۔ **اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات**، اجلاس نمبر ۲۲۹، مورخہ ۲۷ ستمبر ۲۰۲۲ء، سفارش نمبر ۸۔

مجبور یا اس مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ عموما یہ لوگ گداگری، سیکس ورک اور شادیوں پر ناچنے گانے کو بہ طور پیشہ اختیار کرتے ہیں اس شق میں یہ تو واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھیک مانگنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا یہ جرم تصور ہو گا۔ اس کے علاوہ اس شق میں سیکس ورک اور شادیوں پر ناچنے کو بہ طور جرم ذکر نہیں کیا۔ حالاں کہ ٹرانس جینڈر افراد میں سے اکثر اس پیشے سے وابستہ ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھیک منگوانا انسانی وقار کے خلاف ہے۔ کیا سیکس ورک اور شادیوں پر ناچنا انسانی وقار کے خلاف نہیں ہے؟ حالاں کہ تعزیرات پاکستان دفعہ ۳۷۷ [۳۷] میں غیر فطری جنسی فعل جرم قرار دیا گیا ہے اور اس کی سزا کم سے کم دو سال اور زیادہ سے زیادہ دس سال قید ہے اور جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے مطابق کسی مرد، خاتون یا جانور کے ساتھ فطری اصولوں کے خلاف جنسی تعلق کا قیام جرم ہے۔ یہ شق غیر فطری جنسی افعال کے سامنے ایک مضبوط دیوار ہے اور اس شق کو بھی ختم کرنے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہمسایہ ملک انڈیا میں اس شق کو انسانی حقوق کے خلاف قرار دے کر ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس شق میں بھی ایک کمی ہے وہ یہ کہ اس میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ کوئی مرد غیر فطری فعل کا مرتکب ہو گا تو سزا کا مستحق ہو گا۔ لیکن اگر کوئی عورت، عورت سے جنسی تعلقات قائم کرے تو اس کی سزا بیان نہیں کی گئی۔ انٹر نیشنل کمیشن آف جیورس ICJ نے اپنی رپورٹ کے نتائج اور سفارشات میں یہ بات کی ہے کہ پاکستان کو اپنے قانونی فریم ورک پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ [۳۸] تا کہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعات سمیت دیگر قوانین ٹرانس جینڈر افراد کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ خاص طور پر تشویش کی بات ہے کہ تعزیرات پاکستان دفعہ ۳۷۵ [۳۹] جنسی زیادتی کی تعریف صنفی حوالے سے کرتی ہے، جس کا ارتکاب صرف ایک مرد ہی کسی عورت سے کر سکتا ہے - ٹرانس کے ساتھ کی گئی جنسی زیادتی کو یہ شق اپنے دائرۂ کار سے خارج کر رہی ہے جو کہ ان سے امتیازی سلوک ہے۔ جنسی زیادتی کی تعریف صنف سے بالا تر ہو کر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ICJ نے یہ سفارش بھی کی ہے کہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۳۷۷ [۴۰] جو

37– Sohail Anwar Qureshi Advocate (comp), Pakistan Penal Code,1860 (Lahore: Mansoor Book House, 2022), chap no xvi-A.Sec.377, 211.

38– ICJ A briefing report march 2020, sec.9, 27.

39– Sohail Anwar Qureshi Advocate (comp), Pakistan Penal Code, 1860 (Lahore: Mansoor Book House, 2022), chap no xvi-A.Sec.375. 210.

40– Sohail Anwar Qureshi Advocate (comp), Pakistan Penal Code,1860 (Lahore: Mansoor Book House, 2022), chap no xvi-A.Sec.377, 211.

"غیر فطری جنسی فعل" کو جرم قرار دیتی ہے،اسے فی الفور ختم کرنے کی ضرورت ہے تا کہ ٹرانس سے کسی قسم کا امتیازی سلوک اور آزادی سلب نہ ہو۔

سینیٹر مشتاق احمد کی طرف سے اس ایکٹ کے متبادل، خنثٰی پرسنز پروٹیکشن آف رائیٹس بل ۲۰۲۲ء بھی سینیٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ اسلام آباد میں پیش کیا جا چکا ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ اسلام آباد بھی اس ایکٹ سے متعلق ۱۹ر مئی ۲۰۲۳ء کو اپنا فیصلہ سنا چکی ہے جس میں اس ایکٹ کی بہت سی دفعات کو خلاف شریعت قرار دیا گیا ہے۔[۴۱]

ٹرانس جینڈر ایکٹ اور عالمی قوانین: جنسی رجحان اور صنفی شناخت کے سلسلے میں یوگیاکارتا اصول

یوگیاکارتا اصول، جنسی رجحان اور صنفی شناخت سے متعلق انسانی حقوق کے بارے میں ایک دستاویز ہے۔ جو نومبر ۲۰۰۶ء کو جاوا کی گڈجا مڈا یونی ورسٹی(Gadjah Mada University) میں بین الاقوامی کمیشن آف جیورسٹ، بین الاقوامی سروس برائے انسانی حقوق اور دنیا بھر کے انسانی حقوق کے ماہرین کے اجلاس میں تیار کی گئی تھی۔ چوں کہ اس کو پیش کرنے کی کانفرنس انڈونیشیا کے شہر یوگیاکارتا میں منعقد ہوئی اس لیے ان کو "یوگیاکارتا اصول" سے موسوم کیا گیا۔[۴۲] یہ اصول LGBTQI افراد کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیے گئے ہیں اور ۲۰۱۷ء میں ان میں مزید اضافہ کیا گیا۔ ان اصولوں میں صنفی اظہار اور جنسی خصوصیات کی نئی بنیادیں شامل کی گئی ہیں۔ چوں کہ یہ اصول کسی بین الاقوامی معاہدے کا حصہ نہیں ہیں، لہٰذا یہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کا قانونی حصہ نہیں ہیں۔ ان کا مقصد انسانی حقوق کے معاہدوں کی تشریح میں مدد کرنا ہے۔

ٹرانس جینڈر ایکٹ میں صنفی شناخت اور صنفی اظہار کی تعریفات یوگیاکارتا اصولوں سے ملتی ہیں۔ یوگیاکارتا اصول خاص طور پر ایل جی بی ٹی کیو آئی افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں، نہ کہ خنثٰی افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ ہماری مقننہ نے بغیر تفصیلی جائزے کے ان تعریفات کو کاپی کر کے ٹرانس جینڈر افراد کے

41– The Federal Shariat Court Of Pakistan (Islamabad: Shariat Patition No. 5/I oF 2020. (Judgment date:19.05.2023).

42– *The Yogyakarta Principles*, 7.

حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی، حالاں کہ ہمارے ملک میں خنثیٰ افراد کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کی زیادہ ضرورت تھی۔

ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ٹرانس جینڈر حقوق کا تعارف

ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں تقریبا ۱.۴ ملین (چودہ لاکھ) بالغ شہریوں کو ٹرانس جینڈر کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی کل پچاس ریاستیں ہیں اور ہر ریاست میں ٹرانس جینڈر کے حقوق مختلف ہیں۔ ٹرانس جینڈر کمیونٹی کے ساتھ ملازمت، شادی، ادویات، قید اور فوج میں شمولیت کے حوالے سے امتیازی سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ امریکہ کے سول رائٹس ایکٹ ۱۹۶۴ کا ٹائٹل VII، نسل، رنگ، مذہب، جنس اور قومی اصل کی بنیاد پر ملازمت میں امتیازی سلوک کو منع کرتا ہے۔ اس حق کے تحت امریکہ میں ٹرانس جینڈر افراد کو ملازمتوں کے حصول میں تحفظ حاصل ہے۔ امریکہ میں پچھلے کئی برسوں کے دوران، متعدد اہم عدالتی فیصلوں نے ٹرانس جینڈرافراد کے حقوق کو بڑھانے اور ان کے تحفظات کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پرائس واٹر ہاؤس بنام ہاپکنز میں، سپریم کورٹ نے ملازمت کے دوران صنفی دقیانوسی تصورات پر توجہ دی، اس کیس میں ایک خاتون شامل تھی جسے اس کی ظاہری شناخت / صنفی کردار، دقیانوسی تصورات کے مطابق نہ ہونے کی بنا پر اسے شریک کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ عدالت نے کہا کہ صنفی دقیانوسی تصورات پر مبنی امتیازی سلوک ۱۹۶۴ء کے شہری حقوق ایکٹ کے عنوان VII کی خلاف ورزی ہے، جو جنسی امتیاز کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ اس فیصلے نے صنفی کردار اور ظاہری شکل کے حوالے سے سماجی توقعات کے مطابق ہونے میں ناکامی کی بنیاد پر ٹرانس جینڈر افراد کو امتیازی سلوک سے بچانے کی بنیاد رکھی۔ (۴۳)

ریاست ہائے متحدہ میں ٹرانس جینڈر افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے تاحال کوئی جامع وفاقی قانون سازی نہیں کی گئی ہے۔ تاہم، وفاقی اور ریاستی دونوں سطحوں پر مختلف قوانین اور پالیسیاں موجود ہیں جو ٹرانس جینڈر افراد کے لیے مخصوص تحفظات فراہم کرتی ہیں۔ USA کی سرفہرست ریاستوں میں سے نیویارک نے ٹرانس جینڈر افراد کے حقوق کے تحفظ کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ ریاست کا صنفی اظہار، غیر امتیازی قانون (Genda) ملازمت، رہائش اور عوامی رہائش جیسے شعبوں میں صنفی شناخت یا اظہار کی بنیاد پر امتیازی سلوک سے

43– https://www.oyez.org/cases/1988/87-1167 (Accessed on: 25.06.2023).

منع کرتا ہے۔ مزید برآں، نیویارک سٹی انسانی حقوق کا قانون میونسپل سطح پر مزید تحفظات فراہم کرتا ہے۔ تاہم، ٹرانس جینڈر افراد کو اب بھی خصوصی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کی دست یابی اور جنس کی تفویض کے طریقہ کار کی لاگت سے متعلق چیلنجوں کا سامنا ہے ، لیکن نیو یارک جیسی ریاست نے بھی ابھی تک "X جینڈر کارڈ کے لیے اپنے سسٹم کو اپڈیٹ نہیں کیا، بلکہ وہاں سرکاری طور پر جنس کی بنیاد پر جو سروسز ملتی ہیں ، جو لوگ خود کو ٹرانس سمجھتے ہیں وہ ان سے محروم ہوسکتے ہیں ۔ایسے لوگ اگر یہ سروسز حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ (غیر ثنائی ہونے کا دعوی کرنے کے ساتھ ساتھ) عورتوں کے حقوق لینے کے لیے Gi کوڈ اپلائی کرتے ہیں اور مردوں کی سروسز کے حصول کے لیے Gii کوڈ اپلائی کرتے ہیں۔امریکہ اور پاکستان نے ٹرانس جینڈر افراد کے لیے اپنے صنفی شناخت کے قوانین اور پالیسیوں میں مختلف انداز اپنایا ہے۔ امریکہ موجودہ ریاستی قوانین اور عدالتی احکامات پر انحصار کرتا ہے۔ البتہ وہاں از خود تصدیق کی پالیسیوں کی طرف رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس، پاکستان کا ٹرانس جینڈر پرسنز ایکٹ ایک جامع قانونی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ جو شناخت، امتیازی سلوک کے خلاف تحفظ اور ضروری خدمات تک رسائی کو حل کرتا ہے۔

برطانیہ میں ٹرانس جینڈر افراد سے متعلق قوانین

برطانیہ میں ٹرانس جینڈر حقوق کے لیے جنسی امتیازی ایکٹ ۱۹۷۵ نافذ کیا گیا، جس میں ملازمت، تعلیم اور رہائش، سامان، سہولیات اور خدمات کی فراہمی میں جسمانی جنس کی بنیاد پر امتیازی سلوک کو غیر قانونی قرار دیا ہے [۴۴]۔ اس کے بعد جینڈر ریکگنیشن ایکٹ ۲۰۰۴ برطانیہ متعارف ہوا، یہ برطانوی قانون سازی کا اہم حصہ ہے۔ جو ٹرانس جینڈر افراد کو اپنی بیان کردہ جنس کی قانونی شناخت کے حصول کے لیے ایک قانونی طریقہ کار فراہم کرتا ہے۔ یہ یکم جولائی ۲۰۰۴ء کو نافذ کیا گیا تھا ۔جینڈر ریکگنیشن ایکٹ ۲۰۰۴ کے تحت، برطانیہ میں ٹرانس جینڈر افراد صنفی شناخت کے سرٹیفکیٹ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے، درخواست دہندگان کو کچھ معیارات پر پورا اترنا پڑتا ہے، مثلاً ۱۸ر سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہونا، کم از کم دو سال تک اپنی حاصل کردہ جنس میں رہنا، جنس کی منتقلی کا طبی ثبوت فراہم کرنا اور موت تک اسی جنس میں رہنے کا تہیہ کرنا۔ منتقلی جنس کے لیے دی گئی درخواست کے بعد اس بات پر بھی غور کیا جاتا ہے کہ اس سے کسی فرد کی شادی

44– https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_Discrimination_Act_1975 (Accessed on 03.07.2023)

وغیرہ کا معاہدہ تو متأثر نہیں ہو رہا۔ [۴۵]

برطانوی سپریم کورٹ کا فیصلہ

کرسٹی ایلن کین برطانیہ کا ایک X-Gender فرد ہے جس نے اپنی قانونی شناخت کے لیے ملک میں اچھی خاصی مہم چلائی جسے مقامی و بین الاقوامی سطح پر خوب پذیرائی ملی [۴۶]۔ اس نے ہوم ڈیپارٹمنٹ آفس میں X-Gender پاسپورٹ کے حصول کی درخواست دائر کی جسے رد کر دیا گیا۔ بقول ایلن کین کہ وہ نان بائنری فرد ہے۔ بالآخر وہ سپریم کورٹ جاتا ہے کہ وہ نان جینڈر کیٹیگری کا ہے اسے X-Gender پاسپورٹ درکار ہے، جو ہوم ڈیپارٹمنٹ آفس جاری نہیں کر رہا۔ سپریم کورٹ نے مورخہ ۱۲/ ۱۳/ جولائی ۲۰۲۱ء کو کیس کی سماعت کی اور اپیل رد کرتے ہوئے چند وجوہات ذکر کیں کہ ہمارا قانون ایکس جینڈر کیٹیگری کی شناخت نہیں کرتا وہ صرف عورت اور مرد کی جینڈر کی شناخت کرتا ہے۔ مزید براں یہ بھی لکھا کہ یہ بہت مہنگا کام ہے ملک اس کے اخراجات کا متحمل نہیں اور اس سے ملکی سیکیورٹی بھی متأثر ہو گی۔

ٹرانس جینڈر پرسنز (پروٹیکشن آف رائٹس) ایکٹ انڈیا ۲۰۱۹ء

ٹرانس جینڈر پرسنز (پروٹیکشن آف رائٹس) ایکٹ، بھارت میں نومبر ۲۰۱۹ء میں منظور ہوا اور ۱۱/ جنوری ۲۰۲۰ء کو نافذ ہوا۔ یہ ایکٹ ۹/ ابواب اور ۲۳/ دفعات پر مشتمل ہے اور صنفی شناخت کے مطابق رجسٹریشن کا حق فراہم کرتا ہے۔ درخواست گزار کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ درخواست دینا ہوتی ہے، جو شناختی سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ جنسی تفویض کی سرجری کے لیے، درخواست گزار کو چیف میڈیکل آفیسر کی رپورٹ کے ساتھ دوبارہ درخواست دینی ہوتی ہے، جس کے بعد مجسٹریٹ کیس کی انکوائری کے بعد نئی شناختی سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ انڈین ایکٹ خاندان کے ساتھ رہائش کا حق اور صحت کی دیکھ بھال، خاص طور پر SRS کے لیے ہیلتھ انشورنس فراہم کرتا ہے۔ برعکس، پاکستانی قانون میں خاندانی حق کا تحفظ نہیں ہے، حالاں کہ انڈیا کا ایکٹ وراثت کے حقوق کی ضمانت نہیں دیتا، لیکن خاندان کے ساتھ رہنے کا حق فراہم کرتا ہے جو کہ ایک مثبت فیصلہ ہے۔

45– Gender Recognition Act 2004 (c.7) 1st July 2004, 2.

46– https://uk.linkedin.com/in/christie-elan-cane-b10a3789 (Accessed on: 18-07-2023)

معلوم ہوا ٹرانس جینڈر افراد کی قانونی حیثیت مختلف ممالک میں مختلف ہے۔ کچھ ممالک نے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مخصوص قوانین وضع کیے ہیں، جب کہ کچھ میں ان کی صنفی شناخت یا اظہار کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ بہت سے ٹرانس جینڈر افراد کو ملازمت، رہائش، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور دیگر زندگی کے شعبوں میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

تحقیق کے نتائج

۱۔ ٹرانس جینڈر ایکٹ ۲۰۱۸ء میں بیان کردہ بنیادی حقوق جیسے تعلیم، صحت، جائیداد، ملازمت اور امتیازی سلوک کی ممانعت سے متعلق دفعات، آئین پاکستان اور قرآن و سنت کے موافق ہیں تاہم، بعض دفعات جیسے خود ساختہ صنفی شناخت کو تسلیم کرنا اور اسی بنیاد پر تقسیم وراثت وغیرہ، آئین اور قرآن و سنت کے اصولوں کے منافی ہیں۔

۲۔ ٹرانس جینڈر ایکٹ کو "ٹرانس جینڈر پرسنز" کی بجائے "خنثیٰ (Intersex) پرسنز" کے نام سے موسوم کیا جانا چاہیے، کیوں کہ پاکستان میں حقیقی خنثیٰ (Intersex) افراد کے حقوق کے تحفظ کی زیادہ ضرورت ہے۔

۳۔ خنثیٰ (Intersex) افراد کا مسئلہ جسمانی، جب کہ ٹرانس جینڈرز کا ذہنی و نفسیاتی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے احکام شرعیہ مختلف ہیں۔

۴۔ ٹرانس جینڈر ایکٹ دفعہ (ii) 2n میں یونخ کی تعریف کیسٹریشن کو ممکنہ طور پر قانونی جواز فراہم کر رہی ہے حالاں کہ حادثاتی اور بیماری والی صورتوں کے علاوہ کیسٹریشن ممنوع اور حرام ہی نہیں بلکہ کسی دوسرے شخص کے عضو کو جبراً تلف کرنا تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۳۳۳ تا ۳۳۶ کے تحت قابل سزا جرم بھی ہے۔

۵۔ انٹرسیکس، یونخ، خواجہ سرا کا مفہوم ایک دوسرے سے مختلف ہونے کی بنا پر ان کو " ٹرانس جینڈر" کے تحت یکجا کر کے ذکر کرنا اور ان پر ایک ہی حکم لگانا بعید از قیاس ہے۔

۶۔ ٹرانس جینڈر ایکٹ دفعہ ۷ میں بیان کردہ خود ساختہ صنفی شناخت (Self Perceived Gender Identity) کی بنیاد پر، تقسیم وراثت، شریعت اسلامیہ کے منافی ہے۔

۷۔ صرف باطنی احساسات کی بنا پر جنس مخالف میں رجسٹرڈ ہو کر عورتوں کا مردوں اور مردوں کا عورتوں کی

مخصوص دینی و سماجی محفلوں اور مخصوص مقامات میں جانا شرعاً درست نہیں۔

۸۔ جنس کی تعیین بائیولوجیکل مسئلہ ہے۔ اگر کسی فرد کی جنس میں ابہام پایا جائے تو اس کی تعیین کے لیے بائیولوجیکل ماہرین کی رائے کو معتبر مانا جائے گا۔ دوسرے افراد کی رائے ممکنہ طور پر تعصبی ہو سکتی ہے اور معاشرتی و خاندانی انتشار کا سبب بن سکتی ہے۔

۹۔ خنثیٰ (Intersex) افراد کو گداگری یا کسی ایسے پیشے کے لیے مجبور کرنا جو انسانی وقار کے خلاف ہو، قابل سزا جرم ہے۔

۱۰۔ انڈین ٹرانس ایکٹ ۲۰۱۹ء کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ خاندان کے ساتھ رہائش کے حق کی ضمانت دیتا ہے، چاہے وہ خاندان حیاتیاتی ہو یا گود لینے والا۔ خاندان کے ساتھ رہنے کی صورت میں وراثت جیسے حقوق بھی آسانی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔

۱۱۔ صنفی شناخت ایکٹ ۲۰۰۴ء(برطانیہ) کے تحت، کسی بھی فرد کو "صنفی شناخت سرٹیفکیٹ" حاصل کرنے کے لیے جنس کی خرابی کا طبی ثبوت فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے اور کم از کم دو سال تک اپنی مطلوبہ جنس میں رہنا اور موت تک اسی جنس میں رہنے کا عزم ظاہر کرنا ہوتا ہے، جب کہ ٹرانس جینڈر ایکٹ ۲۰۱۸ میں یہ شرائط مفقود ہیں۔

۱۲۔ خود ساختہ صنفی شناخت کی بنیاد پر رجسٹریشن سے شخصی، دینی، معاشرتی اور قانونی معاملات متاثر ہونے کا خدشہ ہے ۔

۱۳۔ ٹرانس جینڈر ایکٹ کی دفعہ (n)(ii)۲ اور ۳ نہ صرف خاندانی نظام کے منافی ہے بلکہ مقاصد شریعہ (حفظ النفس، حفظ النسل) کے بھی خلاف ہے۔

ٹرانس جینڈر ایکٹ کو شرعی و قانونی طور پر بہتر بنانے کے لیے سفارشات

ٹرانس جینڈر ایکٹ کی بجائے خنثیٰ افراد کے لیے نیا قانون فقہائے کرام، قانونی ماہرین، ڈاکٹرز اور اسلامی نظریاتی کونسل کی نگرانی میں تیار کرایا جائے، جو قرآن و سنت، آئین پاکستان ملکی تہذیب و ثقافت سے مطابقت رکھتا ہو۔

خنثیٰ اور ٹرانس جینڈر افراد کے حقوق کی الگ الگ وضاحت اور فرق بیان کیا جائے، تا کہ ان

کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جاسکے اور ان کو قانونی مدد اور مشاورت فراہم کرنے کے لیے خصوصی سیل قائم کیے جائیں جو شرعی اور قانونی دونوں پہلوؤں سے ان کی رہ نمائی کریں۔

ایکٹ کے نفاذ کے لیے بہتر طریقہ کار وضع کیا جائے تاکہ اس کی عملی تطبیق اور نفاذ میں کوئی قانونی پیچیدگی نہ ہو اور مقننہ کو قانون سازی اردو زبان میں کرنی چاہیے تاکہ ہر خاص و عام اس کو آسانی سے سمجھ سکے۔

۞ ۞ ۞ ۞ ۞

List of Sources in Roman Script

- *al-Qurʾān*
- al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī, *al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ*. Multān: Maktabat Dār al-Qurʾān wa al-Ḥadīth, n.d.
- al-Nasāʾī, Abū ʿAbd al-Raḥmān Aḥmad b. Shuʿayb b. ʿAlī. *Al-Sunan al-Nasāʾī*. Karāchī: Qadīmī Kutub Khānah, N.D.
- al-Tirmidhī, Muḥammad b. ʿĪsā *Jāmiʿ al-Tirmidhī*. Lāhaur: Urdu Bāzār, Maktabat Raḥmāniyyah, N.D.
- al-Bukhārī, Muhammad b. Ismaʿīl. *al-Jāmiʿ al-Ṣaḥīḥ*. Lāhaur: Urdu Bāzār, Maktabat al-Ḥasan, N.D.
- *Islāmī Naẓariyātī Council kī Sifārišāt*, Ijlās No. 229, Siptambar 2022.
- Abū Muḥammad ʿAbd al-Ḥaqq b. Abī Bakr, Imām Ibn ʿAṭiyyah al-Andalusī. *Tafsīr Ibn ʿAṭiyyah: al-Muḥarrar al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-ʿAzīz*. Qaṭar: Idārat al-Shuʾūn al-Islāmiyyah, 2007.
- Nūr al-Ḥasan. *Nūr al-Lughāt (Urdū)*. Lakhnaw: Ḥalq-e-Ishāʻat, 1917.
- Sayyid Aḥmad Dihlawī. *Farhang Āṣafiyyah*. Lāhaur: Maṭbaʿ Rifāḥ-ʿĀmm Press, 1908.
- Al -Mawsoo'ah al-Fiqhiyyah,
- *The Oxford English Urdu Dictionary*. Translator: Shanulhaq Haqqi (Karachi: Oxford University Press, 2006), 1865.
- *The Oxford English Urdu Dictionary*. Translator: Shanulhaq Haqqi, (Karachi: Oxford University Press, 2006), https://www.unfe.org/wpcontent/uploads/2017/05/UNFE Transgender.pdf(Accessed on:01.12.2022)
- The Transgender Persons (Protection of Rights) Act 2018, sec.2 (n) (1).

- ❖ Issues | National Center for Transgender Equality (transequality.org) (Accessed on:10.06-2023)
- ❖ ICJ A briefing report March 2020, sec. 3.
- ❖ Henry Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary*, Revised 4th Ed., 1968, St. Paul, Minn. West Publishing Co.P.654.
- ❖ Shan ul Haqq Haqqi, *Oxford English-Urdu Dictionary*, ISBN-13: 978-0195793406
- ❖ Sohail Anwar Qureshi Advocate (comp). *Pakistan Penal Code*, 1860. (Lahore: Mansoor Book House, 2022), Chap no xvi. Sec 333- 336., 79.
- ❖ ICJ A briefing report March 2020, sec. 5(a), 14-15.
- ❖ Muhammad Abdul Basit Adv. High Court (Comp), *The Qanun-e-Shahadat*, 1984. (Rawalpindi: Published by Federal Law House, 2022.) Part.1. Chap no IV, V. Article. 70,71,72, 40-42.
- ❖ Report: 315, The Session of Senate Secretariat "Questions for Oral answers and their replies on 10 Nov, 2021.Published in Urdu news, Islamabad on 11 Nov, 2021.
- ❖ Muhammad Abdul Basit Advocate (comp.). Muslim Family Laws: The Muslim Family Laws Ordinance, 1961. (As amended for Punjab). (Rawalpindi: Published by Federal Law House, 2022), Sec.4. 4.
- ❖ Muhammad Abdul Basit Advocate (comp.), Muslim Family Laws: *The West Pakistan Muslim Personal Law* (Shariat) Application Act, 1962 (Rawalpindi: Published by Federal Law House, 2022), Sec.2. 112.
- ❖ Muhammad Abdul Basit Advocate (comp.), Muslim Family Laws: The Muslim Family Laws Ordinance, 1961. (As amended for Punjab). Rawalpindi: Published by Federal Law House, 2022.Sec.4.p.4.
- ❖ Sohail Anwar Qureshi Advocate (comp), Pakistan Penal Code,1860 (Lahore: Mansoor Book House, 2022), chap no xvi-A.Sec.377, 211.

❖ The Federal Shariat Court Of Pakistan (Islamabad: Shariat Petition No. 5/I oF 2020. (Judgment date:19.05.2023).

❖ *The Yogyakarta Principles*, 7.

https://www.oyez.org/cases/1988/87-1167 (Accessed on: 25.06.2023).

❖ https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_Discrimination_Act_1975 (Accessed on 03.07.2023)

❖ Gender Recognition Act 2004 (c.7) 1st July 2004, 2.

❖ https://uk.linkedin.com/in/christie-elan-cane-b10a3789 (Accessed on: 18-07-2023)